```
کیا جمعہ کے دن یوم عرفہ آنے کی کوئی فضیلت یا انتیازی خصوصیت ہے؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                جواب
                                                                           جس میں یہ ہوکد اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن آئے تواس سال ج سات ج کے برابر ہوتا ہے ، لیکن ایک جگہ "سٹر جج "کا ذکر ہے ، اورایک جگہ : "بسٹر جج "کا ذکر ہے ، اورایک جگہ : "بسٹر جج "کا ذکر ہے ، اورایک جگہ نے تابیش جی درست نہیں ہیں!
                                                                                                                                                     س حدیث میں آئے ہیں، وہ حدیث باطل اور صحیح نہیں ہے ، جبکہ دوسری روایت کی ہمیں کوئی سندیا متن نہیں ملا، چنانچہ پر بے بنیا دروایت ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                            یں واردشدہ روایت کے متن [کا ترجمہ ] یوں ہے:
                                                                                                                                                                         ی ترین دن جمعہ کے روز آنے والا عرفہ کا دن ہے ، اوروہ جمعہ کے علاوہ کسی اور دن میں آنے والے ستر حج سے بستر ہے "
                                                                                                                                                                                                                  ایت کے باطل اور صحح نہ ہونے کے بارے میں ائمہ کرام نے حکم لگایا ہے:
                                                                                                                                                                                                                                                             1- ابن قيم رحمه الله كيت بين :
                                                                                                                  لوگوں میں زبان زدعام بات کہ اس دن کا حج بستر حج کے برابر ہے، تو یہ باطل بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، کسی صحابی یا تا بعی سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ والنداعلم
                                                                                                                                                       2-شيخ الباني رحمه الله" سلسله ضعيفه" (207) ميں حديث پر حكم لكانے كے بعد كديہ حديث باطل ب، اسكى كوئى بنياد نهيں ب، كست بين:
" علامه زيلعي كا " حاشيه ابن عابدين " ( 348/2 ) مين كښاكه : "اس حديث كورزين بن معاويه نه " تتجريد الصحاح " مين روايت كيا 🚅 " تواس كه بارے مين په ذېن نشين كرلين كه رزين كي اس كتاب مين حديث كې چهرېزى كتب كوجمع كيا 🚅 - جن مين صحيح بخارى ، مسلم ، موطالمام مالک ، سنن البوداود ، س
                                                                                                                                                                                                                                                                           يوكا(2/8/2
                                                                                                                                                                                                                                                نه " (1193) من الباني رحمه الله كينة من :
                                                                                                                                                                                                                                        ر "نفاهاي له حمد الله كا فلام ني من يشغلا! ( وَاللَّهُ 197 كُلُّ يَ
                                                                                                                                                                                                                                                نه " (3144) مين آپ رحمه الله كهتة مين :
                " حافظ ابن تجرف " فتي الباري " (8/204) ميں اس حديث كليئر رزين كى كتاب " الجامعة " ميں سے حديث كامر فوعاً حوالد دسية ہوئے كہا : " مجيم اس كے بارے ميں علم نہيں ہے؛ كيونكد رزين نے اسے روايت كرنے والے صحابی، اور نقل كرنے والے حدث كانام تك ذكر نہيں كيا "
                                                                                                                                                                                                                          ن ناصر الدین ومشقی نے اسینے جزء : "فُسَل یوم عرفته " میں کہاہے کہ :
                                                                                                                                                                                                                                           3-شخ محد بن صالح عثميين رحمه الله سے پوچھاگيا:
                                                                                                                                                                                                        "كيا نبي صلى الله عليه وسلم سے جمعہ كے دن حج كے بارے ميں كوئى فضيلت ملتى ہے؟"
                                                                                                                                                                      ﴾ اسی طرح ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ج کیا تھا؛ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہی ملاتھا۔
                                                                                                                          دن ایک ایسی گھڑی ہے ،جس میں کوئی بھی بندہ اللہ تعالی سے کھڑے ہمی الم کچھ بھی یا نگھ تواللہ تعالی اسے وہی چیز عطافریا تاہے ، تواس طرح قبولیت کا امکان مزیر بڑھ جاتا ہے ۔
                                                                                                                                                                                            وم عرفه ایک تہوارہے ، اور جمعہ کا دن بھی تہوارہے ، چنانچہ دو تہواروں کے اٹھے ہونے میں خیر ہوگی۔
                                                                                                                                                                                                               ، مشور ہوجانا کہ جمعہ کے دن کا ع ستر ع کے برابر ہے، تویہ صحح نسیں ہے "انتہی
"اللتاء الشہرى" ( 34/موال نمبر : 18)
                                                                                                                                                                                                                                             4- دائمی کمیٹی کے علمائے کرام سے پوچھاگیا:
                                                                                                                                " کچے لوگ کتے ہیں کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن آجائے ، جیبے اس سال آرہا ہے ، تو یہ جج سات ج کے برابر ہوگا ، تو کیا سنت میں اس بارے میں کوئی دلیل ملتی ہے ؟ "
                                                                                                                                                               "سنت میں اس کے متعلق کوئی صحیح دلیل نہیں ہے،اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایساج ستریا ہشتر ج کے برابرہے یہ بھی صحیح نہیں ہے"
                                                                                                                                                                                                                                           "فياوى اللجنة الدائمة " (210/11 ، 210)
                                                                                                                                                                                                                                          ن "(271/8) اور "تحية الأحوذي "(27/4)
```

وگوں میں اس بات کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ یہ بات فقهائے اخیاف ، اور شوافع کی کتب میں ملتی ہیں۔

```
" يوم عرفه اگر جمعہ كے دن آجائے توبہ سب سے افغنل دن ہے ، اور یہ جمعہ كے علاوہ دیگرایام میں آنے والے سٹر جج سے بستر ہے ۔ "
                                                                                                                                                                                                                                                  "ردالحمار على الدرالمخار" (621/2)
                                                                                                                                                                                                                                                       جکہ شافعی فقہائے کرام کا کہناہے کہ:
                 "اور کہا گیا ہے کہ : اگر جمعہ کے دن یوم عرفہ ہوجائے تواللہ تعالی عرفہ میں موجود سب کومعات کردیتا ہے، یعنی بلاواسطہ معات فرہا دیتا ہے، جبکہ عرفہ جمعہ کے علاوہ کسی اور دن میں ہوتو واسطے کیساتھ معات کرتا ہے، یعنی : برے لوگوں کو نیک لوگوں کی مغارش سے معات فرہا تا ہے"
                                                                                                                                                                                                                                                           "مغنى المحاج " (497/1)
                                                                       ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کے دن وقونِ عرفہ کا کوئی امتیاز ہے ہی نہیں ، بلکہ ا بن قیم رحمہ الٹدنے اس دن وقوف کے بارے میں دس امتیازات بیان کے ہیں ، ہم انگی اہمیت اور فائدے کے پیش نظرانہیں ذکر کرتے ہیں ۔
                                                                                                                                                                                                                                                                    ن قيم رحمه الله كهية مين :
                             میں جمعہ کا دن سب سے افشل ہے، اور ایوم عرفہ و ایوم نحر سال کے افشل ترین دن ہیں ، اس طرح لیلۃ القدر ، اورجمعہ سے پہلے والی رات بھی افضل ترین راتیں ہیں ، اس لئے جمعہ کے دن ایوم عرفہ کی دیگر تنام ایام کے مقالبے میں خصوصیات ہیں ، اوراسکی متعدد وجوہات ہیں :
                                                                                                                                                                                                                                    لی وجہ :اس طرح سے دوافسنل ترین دن انٹھے ہوتے ہیں۔
                                                                                                                                 ما کی یقینی تولیت کی گھڑی ہے، اوراکٹر کا یہی قول ہے کہ وہ عصر کے بعد ہے، اوراسی وقت میں عرفات کا میدان کھڑے ہوکر دمائیں مانٹخے والوں سے بحرا ہو تا ہے۔
                                                                                                                                                                                      بر: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى اسى دن وقوف عرفه فرمايا تها، اس طرح تركي موافقت بھى ہوتى ہے۔
              باز جمعہ کیلئے جمع ہوتے ہیں، اور یہ وقت عین وہی لیحہ ہے جس وقت عباج کرام عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اس طرح پوری دنیا کی مساجد کے لوگوں اور عرفات میں عباج کے درمیان دعا وگریہ زاری کیلئے ایک ایسی اجتماعیت پیدا ہجواتی ہے، جو کسی اور دن میں حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔
                                                                                                                                                           عید کا دن ہے ، اور عرفہ کا دن عرفات میں موجود لوگوں کیلیئے عید کا دن ہے ، اس لئے عرفات میں موجود لوگوں کوروزہ رکھنے سے منح کیا گیا۔
ہمارے شخ[ بعنیا بن تیمیہے] کیتے میں : یوم عرفہ ، عرفات میں موجودلوگوں کیلئے عیدے؛ کیونکہ وہ اسی دن اٹھے ہوتے میں ،جبکہ دیڑ علاقوں کے لوگ آئندہ روزیوم نحر کوجمع ہوتے میں ، قوان کیلئے عید کا دن یوم عرفہ ،عور دلوگوں کیلئے عید ہے ، کورکہ وہ اسی دن اٹھے ہوتا میں قواس طرح دوعیا
   ہیں کہ : "ایک یبودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور کہا : امپر المؤمنین!ایک آیت آپ لوگ قرآن میں پڑھتے ہمو،اگروہ آیت ہم یبودیوں پرنازل ہوئی ہوتی، اور ہمیں اس دن کے نازل ہونے کا علم ہموتا توہم اسے اپنے لئے عید کا دن بناتے! آپ نے پوچھا : کونسی آیت ؛ یبودی نے کہا :
                                                                                                                                                                                                                           الْيَوْمَ ٱلْلُتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ لِغَمْقَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
                                                                                           ، جا نتا ہوں کہ یہ آیت کس دن ، کس جگہ ، اور کس بارے میں نازل ہوئی ، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات میں جمعہ کے دن نازل ہوئی ، اور ہم آپ کے ساتھ عرفات میں وقوف کے ہوئے تھے "
سے مرادقیامت کا دن ہے؛ کیونکہ قیامت جمعہ کے دن جی قائم ہوگی، جیسے کہ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا : (مورج طلوع ہونے کا بسترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کوپیداکیاگیا، اوراسی میں جنت کا داخلہ ملا، اوراسی دن جنت سے نکالاگیا، اوراسی دن قیامت قائم ہوگی، اورجمعہ کے دن ابک
ن دیگرایام کی بر نسبت زیاده اطاعت گزاری کرتے ہیں، حتی کہ بد کردار طبقہ بھی جمعہ کے دن اوراس سے پیلے آئیوالی رات کا احترام کرتے ہیں، انکا یہ ما نئا ہے کہ : جو شخص بھی اس دن اللہ کی نافرمانی کرسے توانلہ تعالی اسے مسلت نہیں دیتا بلکہ اسے جلد ازجلہ سزاسے دوچار فرہا دیتا ہے، یہ ایسامعاملہ ہے کہ انہ
                                                                                                            یوم مزید" کے موافق ہے،۔۔۔ اور وہ جمعہ کاون ہے، چنانچہ جس دن یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوا تواسکی شان کو چار چاندلگ جاتے ہیں، اور خصوصیات بڑھ جاتیں ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔
                                                                                                                                                                                 کی شام کوعرفات میں وقوف کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے ، اور پھر فرشتوں کے سامنے فخر فرما تاہے۔۔۔ ۔
                                                                                                                                                                                                    نچہ ان وجوہات کی بنا پرجمعہ کے دن وقوفِ عرفہ کو دیگرایام میں وقوف پر فضیلت دی گئی ہے۔
                                                                                                                                 بات کہ اس دن کا ج ہشتر ج کے برابر ہے ، تو یہ باطل بات ہے ، رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم ، کسی صحابی یا تا بعی سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے ۔ والنہ اعلم "انتہی
                                                                                                                                                                                                                                                         ء كيذا نوقللا كيال الآلة تو60 - كل6وا
```

<u>ښانحه اخاف کيته بين که:</u>

انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ: